

خولی ئیتا-یا.. ئینت-ر ل-دوا ساتدا ل- فیر-نای برد-وو



ل- خولی ئیتا-یا ئینت-ر ل- دوا سات-کاندا س- خا-ی گرنگی ب-رامب-ر هیلاس فیر-نا ب-د-سته-نا.

ل- ه-فت-ی 10 ب-می خولی ئیتا-یا، یا ن-ی ئینت-ر میلان ل- د-ر-وو-ی یاریگای خ-ی بوو- میوانی یا ن-ی هیلاس فیر-نا.

ل- تایمی ب-ک-مدا و ل- خول-کی 16 پیوت-ر س-سیچ گ-گ-کی ب- ئینت-ر ت-مارکرد ب-ام ل- خول-کی 40 جی-فانی ئ-نجام-ک-ی ب- هیلاس فیر-نا ب-کسانکرد-وو.

ل- تایمی دوو-مدا، یاریب-ک- نزیکیوو ل- ک-تایهاتن ب-ام ل- خول-کی 94 مارتن فر-ز ب- ه- ل- خ-یان گ-گ-کی ب- ئینت-ر ت-مارکرد.

س-ر-نجام یاریب-ک- ب- ئ-نجامی دوو گ-گ- ب-رامب-ر گ-گ-ک ل- سوودی ئینت-ر ک-تایهات و ک-ی خا-کانی گ-یانند 21 خا و ب- کاتی چوو- پل-ی دوو-می ریزب-ندی، فیر-ناش پ-نج خا-ی ه-ی- و ل- پل-ی 18

